

TAX TIP OF THE WEEK

SRB exempted whole of the sales tax payable on Life Insurance (tariff heading 9813.1500) and Health Insurance (tariff heading 9813.1600) [other than re-insurance] during the period 1st July, 2014 to 30th June, 2015.

BUSINESS TERM OF THE WEEK

Consumer

An individual who buys products or services for personal use and not for manufacture or resale. A consumer is someone who can make the decision whether or not to purchase an item at the store, and someone who can be influenced by marketing and advertisements. Any time someone goes to a store and purchases a toy, shirt, beverage, or anything else, they are making that decision as a consumer.

QUOTE OF THE WEEK

The whole point of getting things done is knowing what to leave undone.

[Oswald Chambers]

WEEKLY UPDATES (SROs, Circulars etc.)

No Update

صحیح مسلم: جلد اول: حدیث نمبر 1854 حدیث مرفوعہ کمرات 16 متفق علیہ 6
قتیبہ بن سعید، ابو کامل، محمد بن ابی عوانہ، قتادہ، انس، حضرت
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مومن کے قرآن مجید
پڑھنے کی مثال تریح کی طرح ہے کہ اس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ
خوشگوار ہے اور قرآن مجید نہ پڑھنے والے مومن کی مثال اس کھجور
کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں لیکن اس کا ذائقہ بیٹھا ہے اور
منافع کے قرآن پڑھنے کی مثال ریحان کی طرح ہے کہ اس کی
خوشبو تو اچھی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے اور منافع کے قرآن نہ
پڑھنے کی مثال حنظلہ کی طرح ہے کہ جس میں خوشبو نہیں اور اس کا
ذائقہ کڑوا ہے۔

SOFTAX MEMBER QURIES

Question: Are cable operators included in the definition of "Electronic Media"? And exempt from Withholding Income Tax U/S 153(1)(b) as per Clause 16A of Part IV of Second Schedule of ITO, 2001? [Mr. Ameen]

Answer: Clause (16A) deals with advertising services, if cable operator is providing advertising services then "Yes".

Question: Please advise, what are the requirement for registration of cottage industry with sales tax department. [Mr. Sabir]

Answer: Cottage industry is not required to register under Sales Tax Act, 1990, but you may apply for voluntary registration. See Chapter I of the Sales Tax Rules, 2006.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ اِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ اَوْ تَفْرِضُوْهُنَّ فَرِیْضَةً وَّمَتَّعُوْهُنَّ
عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلٰی الْمُحْسِنِیْنَ ﴿۳۱﴾

Maulana Muhammad Joona Garhi	اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کئے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو۔ خوش حال اپنے انداز سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ (۱)۔
Maulana Ishaq Madni	تم پر اس بات میں بھی کوئی گناہ نہیں کہ تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو قبل اس سے کہ تم نے ان کو ہاتھ لگایا ہو یا ان کے لئے کوئی مہر مقرر کیا ہو اور ایسی صورت میں تم ان کو کچھ سامان دے دیا کرو خوشحال پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق فائدہ پہنچانا ہے خوش اسلوبی کے ساتھ حق ہے نیکو کاروں کے ذمے،
Maulana Mahmood ul Hassan Deobandi	کچھ گناہ نہیں تم پر اگر طلاق دو تم عورتوں کو اس وقت کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور نہ مقرر کیا ہو ان کے لئے کچھ مہر اور ان کو کچھ خرچ دو مقدور والے پر اس کے موافق ہے اور تنگی والے پر اس کے موافق جو خرچ کہ قاعدہ کے موافق ہے لازم ہے نیکی کرنے والوں پر ۵
Maulana Fateh Muhammad Jalandhri	اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے طلاق دے دو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہاں ان کو دستور کے مطابق کچھ خرچ ضرور دو (یعنی) مقدور والا اپنے مقدور کے مطابق دے اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق، نیک لوگوں پر یہ ایک طرح کا حق ہے
Maulana Abdur Rehman Kilani	اگر تم ایسی عورتوں کو طلاق دے دو جنہیں نہ تم نے ہاتھ لگایا ہو اور نہ ہی حق مہر مقرر کیا ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں۔ البتہ انہیں کچھ نہ کچھ [۳۳۰] دے کر رخصت کرو۔ وسعت والا اپنی حیثیت کے مطابق اور تنگ دست اپنی حیثیت کے مطابق انہیں بھلے طریقے سے رخصت کرے۔ یہ نیک آدمیوں پر حق ہے
Maulana Ahmad Ali Lahori	تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو جب کہ انہیں ہاتھ بھی نہ لگایا ہو اور ان کے لیے کچھ مہر بھی مقرر نہ کیا ہو اور انہیں کچھ سامان دے دو وسعت والے پر اپنے قدر کے مطابق اور مفلس پر اپنے قدر کے مطابق سامان حسب دستور ہے نیکو کاروں پر یہ حق ہے
Maulana Abul Aala Maududi	تم پر کچھ گناہ نہیں، اگر اپنی عورتوں کو طلاق دے دو قبل اس کے کہ ہاتھ لگانے کی نوبت آئے یا مہر مقرر ہو۔ اس صورت میں انہیں کچھ نہ کچھ دینا ضرور چاہیے۔ خوش حال آدمی اپنی قدرت کے مطابق اور غریب آدمی قدرت کے مطابق معروف طریقے سے دے۔ یہ حق ہے نیک آدمیوں پر۔ (236)
Maulana Taqi Usmani	There is no liability (of dower) on you if you divorce women when you have not yet touched them, nor fixed for them an amount. So, give them mut_ah (a gift), a rich man according to his means and a poor one according to his means – a benefit in the recognized manner, an obligation on the virtuous.
Maulana Abdul Majid Daryabadi	No blame is on you if ye divorce women while yet ye have not touched them nor settled unto them a settlement. Benefit them on the affluent is due according to his means, and on the straitened is due according to his means. a reputable present, and duty on the well-doers.
Sahih International	There is no blame upon you if you divorce women you have not touched nor specified for them an obligation. But give them [a gift of] compensation - the wealthy according to his capability and the poor according to his capability - a provision according to what is acceptable, a duty upon the doers of good.